

صحت کی اہمیت

اسلامی تعلیمات کے روشنی میں

محمد یوسف گوڈا

علم طب اور اسلام ہے۔ طبی نقطہ نظر سے اسلامی تعلیمات پر نظر ڈالی جائے تو عربی کے اس جملے کی صداقت پر یقین آنے لگتا ہے۔ العلم علماں علم الادیان و علم الایمان۔ علم دو ہیں ایک علم دینی اور دوسرا علم بدن۔ کتب طب میں اس قسم کے جملے اسلامی تعلیمات میں صحبت کی اہمیت پر واضح روشنی

۱۔ علم طب پر اکثر کتابوں میں یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ کر استعمال کیا گیا ہے۔ جو صحیح نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ حضرت امام شافعیؓ کا قول ہے۔ ابوالحسن علی بن عبد الحکیم بن طرخان بن تقی المحوی علام الدین المکھل (۴۵۰ - ۶۰۰ھ) نے اپنی تصنیف (الاحکام النبویة فی الصناعة الطبلية، طبع فی مصر ۱۹۵۵ء / ۱۳۷۲ھ) جلد اول میں اس پر بحث کی ہے۔ امام جوی نے الریح بن سلیمان سے امام شافعیؓ کا قول نقل کیا ہے۔ العلم علماں علم الدین و علم الدینیا فالعلم الذی للدینیۃ، والعلم الذی هو للدینیا هو الطلب (علم دین اور علم دینیا۔ علم دین تو علم فقرہ ہے اور دنیا کے لئے جو علم ہے وہ علم طب ہے)۔ دوسری روایت میں ہے۔ صفات لا غنى للناس عنها۔ الا طهار لا بد انهم دالحداء لا ديانهم وما زال العلماء ليعرفون الطب ويستعلونه (علماء کے دو طبقے انسانوں کے لئے ناظریں ہیں۔ اطباء علم صحت بدن کے لئے اور علماء علم دین کے لئے۔ علماء ہمیشہ طب کی معرفت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور اسے استعمال میں لاتے رہتے ہیں) یہ جملہ "العلم علماں علم الادیان و علم الایمان" سنداً و روایت کے اعتبار سے خواہ کسی کا ہو، اسلامی تعلیمات میں صحبت کی اہمیت کا صحیح معنوں میں ترجیح ہے۔

ڈانتے ہیں۔ قرآن حکیم کا حکم ہے۔ ”دَلَّتْلُقُوا بِاِيْكَمْ اَلِ التَّهْلِكَةَ“ ۲۵ : ۱۹۵ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

بیماری انسان کے ذہنی و جسمانی قویٰ کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اور اُس کی تباہی و ہلاکت پر منحصر ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی صحت و تندرستی کا خیال نہیں کرتا۔ اور بیمار ہو کر اپنا علاج نہیں کرتا تو وہ خود کشی کا مرتبہ ہوتا ہے۔ خود کشی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک باقاعدہ کی خارجی قوت سے شعوری طور پر دفعتہ اپنے آپ کو ہلاک کر لینا۔ اور دوسرے اپنے آپ کو ایسے حالات کے حوالے کر دینا جو نتیجہ ہلاکت کا سبب بنیں۔ نتیجے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں۔ صحت کی حفاظت نہ کرنا اور بیماری کی صورت میں علاج نہ کرنا، خود کشی ہے۔ اور اسلام میں خود کشی حرام ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جاہل ہے اور اپنی جہالت کی پنا پر صحت و تندرستی کی حفاظت اور بیماری کی صورت میں اس کے علاج سے ناداقف ہے، تو اس صورت میں وہ معافہ جس کا وہ فرد ہے، اس جاہل شخص کی ہلاکت کا ذمہ دار ہو گا۔ اس لئے نہ چنانچہ بالآیت اگرچہ بظاہر افراد کو مخاطب کرتی ہے، لیکن اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے ملک و معاشرے کو بھی محیط ہے۔ امام حموی نے ایسی ہی صورت حال کے بارے میں لکھا ہے۔ ولو قال قائل: لا أكل ولا اشرب - فان الله يطعني وليسقيني - لكان عاصيا بالاجاع
لأنه خالف موضوع الحكمة - اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہ تو میں کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، اللہ مجھے کھلانے گا اور پلانے گا تو ایسا شخص اجساماً گئے گاہے۔ کیونکہ اس نے موضوع حکمت کی خلاف درزی کی ہے۔ امام حموی اس کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ لانه الفی نفسه الى التلف وقت منہلی اللہ عزوجل عن ذلك ۳۷۔ کیونکہ ایسے شخص نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حالانکہ اللہ عزوجل نے ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

۲- ابوالحسن علی بن عبدالمکریم بن طرخان بن نقی الحموی علام الدین الحمال ، الاحکام النبویۃ
فی الصناعة الطبية طبع فی مصر ۱۳۲۷ھ / ۱۹۵۵ء جلد اول ، ص ۱۲۵ -

صحت کی اسی اہمیت کے پیش نظر فرمایا تھا۔ الظہور شطر الایمان۔ ٹہارت (العینی) حفظہ اللہ کے اصولوں پر عمل کرنا) نصف ایمان ہے۔

اسلامی تعلیمات میں علم طب اور حفظہ اللہ صحت کی یہ اہمیت، ان خصوصیات میں سے ہے جن کی وجہ سے اسلام ادیانِ عالم پر فوتیت رکھتا ہے۔

صحت کی برقراری کے فرض ہے:- اسلام میں صحت کی اہمیت مقاصدِ اسلام کا لازمی و منطقی نتیجہ ہے۔ اسلام جن مقاصد کو لے کر آیا تھا، ضائع ہو جاتے، اگر ان کی حفاظت و تشفیڈ کے لئے باصلاحیت، قوی، تند رست و قوانا افراد پر مبنی ایک جماعت وجود میں نہ آتی۔ اور صحت و تند رستی کو اتنی اہمیت نہ دی جاتی جتنی کر خود مقاصد کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:-

وَاعْدُوا لَهُم مَا سَطَعَتْ مِنْ قُوَّةٍ وَمَنْ رِبَاطُ الْخَيْلِ تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ غَمَّ اللَّهُ يَعْلَمُكُمْ ۝ اور (مسلمانوں) جہاں تک تمہارے بیس میں ہے ہر قسم کی قوت پیدا کر کے اور سرحدی حفاظت کے لئے گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلہ کے لئے اپنا ساز و سامان مہیا کئے رہو کہ اس طرح مستعد رہ کر اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھماک بھائے رکھو گے۔ اور ان کے علاوہ ان دوسرے دشمنوں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔

صحت سے ہر سماں تک کا حق ہے:- اس آیت میں ضمناً صحت و تند رستی کی برقراری اور قوت و طاقت میں مسلسل اضافی کا حکم موجود ہے۔ اس میں "من قوۃ" اور "من رباط الخیل" کے

- ۳۔ صحیح مسلم کتاب الطہارۃ۔ - ۵۔ قرآن۔ ۸ : ۹۰ -

۴۔ نزول قرآن کے وقت "وَمَنْ رِبَاطُ الْخَيْل" سے مراد ہمیشہ تیار رہنے والے گھوڑے تھے، لیکن کوئی جدید میں ان سے مراد ہمیشہ تیار رہنے والی بندوقیں، توپیں، ٹینک، رٹاکا طیارے، میزائل، ایم بم، آب دوز کشتیاں اور دوسرے خود کار سہیار ہیں۔ اور زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جائے گا اور جو نئے نئے سہیار اور ساز و سامان جنگ ایجاد ہوتے جائیں گے، "وَمَنْ رِبَاطُ الْخَيْل" ان سب پر محیط ہو گا، اس ضمن میں جو چیز صحت و طب کے نقطہ نظر سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان ربانی حاشیہ الگی صفحہ پر

الفاکٹر قابل تحریر ہیں۔ قوہ ایسا جائیں لفظ ہے کہ یہ مادی و معنوی تمام قوتوں کو محیط ہے۔ لیکن افراد کی قوت کو بلکہ خاص اہمیت اس لئے حاصل ہے کہ دراصل افراد ہی باقی قوتوں کے ذمہ دار ہستے ہیں، افراد کی ذہنی و جسمانی تدریستی وہ قوت ہے جو بے شمار و دسری تخلیقی قوتوں کو جنم دیتا ہے اور اس طرح قوت و قوانین میں مسلسل اضافے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک غیر جاپ دار پورخ کے لئے یہ بات بڑی تعجب خیز ہو گی کہ اسلام نے صحت کی برقراری اور قوت و قوانین میں اضافے کو اس وقت اہم قرار دیا جب کہ انسان کو اس کی اہمیت کا شعور نہ کھلا۔ اسلام میں صحت کی یہ اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اقوام نے انسان کے اس حق کو حال ہی میں زبردست عوامی تحریکوں کے دباؤ کے نتیجے میں تسلیم کیا، ورنہ آج سے کچھ عرصہ پہلے غیر مسلم اقوام میں انسان کے اس بنیادی حق کا شعور نہ کھلیں ملنا۔

”اعد والهم ما استطعتم“ دغیرہ آیات سے مراد صفر چند فوجی سپاہیوں کی تیاری نہیں بلکہ اللہ کا یہ حکم پوری امتِ مسلمہ کے ہر فرد کو مخاطب کر رہا ہے، اور ہر فرد ملت کو دنایع اسلام اور اشاعت و تنفیذ احکام کا حکم دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے احکام پر غور کرنے سے معلم ہوتا ہے کہ ان کے مخاطب تمام مسلمان بھیثیت جموعی ہیں یعنی

قرآن حکیم شروع تے آخر تک ایسے ادامر و فواہی سے بھرا ہوا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو بجز مستثنیات کے ان احکام کا مقابلہ بنایا گیا ہے۔ اس لئے جہاں تک فرائض کا تعلق ہے ہر مسلمان سے ان کی ادائیگی کا تقاضا کیا گیا ہے اور جہاں تک حقوق کا تعلق ہے ہر مسلمان کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اعد والهم ما استطعتم میں امت کے ہر فرد کو خطاب کیا گیا ہے اس لئے امتِ مسلمہ

(البیهی خاشیہ) تمام بھیڑوں کو بنانے اور ان کو ترقی یافتہ شکل میں رکھنے کے لئے صحت مند و ملغ اور مندرجہ جسم کی اشد ضرورت ہے اور دوسرے ان تمام بھیڑوں کے استعمال کے لئے انتہائی صحت مند و قوانین افراد کی ضرورت ہے جو جہاد و قتال کے میلان میں ان سے کماحتہ قائدہ اٹھاسکیں۔ بیمار اور کمرور افراد ان کے تمہل نہیں ہو سکتے۔

کے ہر فرد پر اپنی صحت کی حفاظت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام پر جب خود عمل کیا اور پوری امت کو ان اصولوں کا کار بند بنایا، تو اس کے جو فوری نتائج برآمد ہوئے خود قرآن کے الفاظ میں یہ تھے: "یقاتلون فی سبیل اللہ کا نہم بنیان موصوٰ: وَهُدُّ اللّٰهِ كَيْدُ رَاهٍ مِّنْ إِلَّا مَطْرُوحٌ لَّهُ تَعَالٰى هُنَّ گُوَيَا وَهُنَّ سَيِّسَهُ بِلَائِيْ ہُوَنَّ دِيَارَهُمْ"۔

اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے اس فریضے لیعنی حفظ ان صحت پر خود کیے عمل کیا اور بحیثیت سربراہِ مملکتِ اسلامیہ امت کو اس پر عمل کرانے کے لئے کیا کیا اقدامات کئے۔ یہ جائزہ دو حصوں پر مشتمل ہو گا:-
نمبر ۱۔ وہ اقدامات جو حجات و صحت کی برقراری کے لئے ضروری ہیں۔ نمبر ۲۔ وہ اقدامات جو قوت و توانائی میں مسلسل اضافے کے لئے لازمی ہیں۔ پہلے حصہ میں ہوا، روشنی، حرارت، بانی اور غذا سے بحث ہو گی اور دوسرا حصہ اسلامی ضابطہ صحت اور طبی ہدایات پر مشتمل ہو گا۔
ہوا، روشنی اور حرارت:- لقائے حیات و صحت کے نبیادی جز، ہوا کے بارے میں دو باتوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر ۱۔ ہوا کافی مقدار میں ہو، نمبر ۲۔ ہوا صاف اور پاکیزہ ہو۔ ہوا کی کمی کا اختلال عام طور پر آبادیوں میں رہائشی مکانات اور انسانی اجتماعات میں ہوتا ہے۔ جہاں تک رہائشی مکانات کی طرز تعمیر کا تعلق ہے، قرآن حکیم اس سلسلے میں چند اشارات دیتا ہے:-

۱۔ مُسْكِنٌ تَرْضُونَهَا۔ ایسے مکانات جو (ہوا، روشنی، حرارت کی فراوانی کی وجہ سے)

پسندیدہ ہوں۔

۲۔ مُسْكِنٌ طَيْبَةً۔ مکانات صحت بخش، ہوا دار، کھلے، صاف سترے اور پاکیزہ ہوں۔

۳۔ فِي مُسْكِنِهِمْ أَبْيَةً۔ جنت عن یمن و شمال مکانات جن کے دائیں بائیں

خوشگواری، پاکیزگی، صفائی اور صحت کے لئے درخت، پتے، سبزہ اور باغات ہوں۔

۲۔ مبلدۃ طبیۃ۔ انتہائی صاف ستر، پاکیزہ، ہوا دار، روشن، کھلا ہوا مثالی شہر۔
 ۵۔ قریۃ کانت آمنۃ مطینۃ۔ پُر امن محفوظ و مامون، شور و غل اور گندگی و غلطت سے پاکیزہ مطمئن بستی۔

قرآن حکیم کے اس نقشے کے مطابق مسلمانوں کو صرف ایسے مکانات میں سکونت اختیار کرنی چاہئے جو ہوا دار، روشن، صاف سترے اور پاکیزہ ہوں اور جن کی خوشگواری، پاکیزگی، صفائی اور صحت بخش فضاء کو برقرار رکھنے کے لئے ان کے دائیں بائیں درخت ہوں، بڑے اور باغات کی فراوانی ہو، اور اس قسم کے مکانات پر مشتمل محلے اور استیان ایسی ہوں جو سکون اور پاکیزگی کے اعتبار سے قریۃ آمنۃ مطینۃ کہلاتیں اور ان پر سکون اور پاکیزہ محلوں پر مشتمل ایسے شہر ہوں جو اپنی صفائی، سترانگی، کشادگی، روشنی وغیرہ کے اعتبار سے "مبلدۃ طبیۃ" کہلانے کے صحیح معنوں میں مستحق ہوں۔

جہاں تک انسانی اجتماعات میں وافر ہوا کی دستیابی کا تعلق ہے اسلام نے اس طرف بھی توجہ دی ہے، مسلمانوں کے بڑے بڑے اجتماع عام طور پر نماز پڑھانا، جمعہ، عیدین اور حج وغیرہ کے موقع پر ہوتے ہیں، اس ضمن میں ادیانِ عالم میں یہ امتیاز شاید صرف اسلام کو حاصل ہے کہ زمین اپنی پوری دعتوں کے ساتھ مسلمانوں کے لئے سجدہ گاہ بنادی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر یہ امداد میں فرمایا کرتے تھے:

میرے لئے ساری زمین سجدہ گاہ بنادی گئی ہے جہاں بھی کسی مسلمان کے لئے وقت نماز آئے وہی پڑھ لیا کرے۔^{۱۳}

مسلمانوں نے اسلام کی اسی وسعت نظری کی روشنی میں مساجد تعمیر کیں اور اس وقت وئے ذمین پر بھیلی ہوئی صدیوں قدیم اور جدید مساجد اس بات کی گواہ ہیں کہ مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہیں دوسرے منداہب کی عبارت گاہوں میں سب سے زیادہ وسیع، کشادہ، ہوا دار اور پر فضا

ہیں اور صحت و صفائی کے اعتبار سے سب پر فو قیت رکھتی ہیں۔ نماز تجھ گانہ اور نماز جمعہ مساجد میں ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن نماز عبیدین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حکمے میدان کو توجیح دیتے تھے۔ اجتماع حج کے لئے بیت اللہ میں تو سیح کا عمل تاریخ اسلام میں مسلسل جاری رہا ہے اور آج بھی اس کی حدود میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، پھر اسلام کے طریقی عبادت میں صفت بندی اور صفوں کے درمیان سجدہ کے لئے ایک خاص ناصلہ کو صحت کے اصولوں کے پیش نظر اہمیت حاصل ہے۔ اسلام نے رہبانتی کی مذمت کی ہے، تنگ و تاریک گوشہ تہائی جس طرزِ زندگی کا خاصہ ہے۔ اسلام نے "لارہبانية فی الاسلام" (اسلام میں رہبانتی نہیں) کے ذریعے اس سے منع فرمادیا۔

ہوا اگرچہ جزو حیات ہے لیکن گندی اور کثیف، ہوا کرنا پسند کیا گیا ہے اور صاف اور پاکیزہ ہوا کو مرغوب مطلوب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں پاک اور صاف ہوا کو "ریح طيبة" کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی ایسی ہوا جو کثافتون اور گندگیوں سے پاک ہو اور مضر صحت اجزاء سے مبتلا ہو، حیات بخش اور مفید صحت ہو، موجب فرحت و انباط ہو۔ اسلام نے صاف ستری اور پاکیزہ ہوا کو محض اخلاقی تعلیم کی حد تک نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کے حصول کے لئے عملاً اقدامات لئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آبادی میں گندگی اور غلطیت پھیلانے اور اسے برقرار رکھنے والے پر اللہ کی لعنت کی وعید سنائی ہے۔^{۱۵} اس سلسلے میں اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے جلائم کی ہلاکت خیزیوں کا اندازہ ساقوں صدی عیسوی میں لگایا تھا۔ تھوک کے جلائم سے ہوا کا آلوہہ ہذا یقینی امر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب مسجد کی دیوار پر تھوک دیکھا تو اس کے ضرر کے پیش نظر صاحبہ کرام کی موجودگی میں خود اپنے دست مبارک سے اسے کھڑخ دیا اور اس جگہ تھوک
لگانے جانے پر آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔^{۱۶} اور ایک حکم کے ذریعے دیواروں، فرشتوں اور ٹیکھوں دغیرہ پر تھوکنے سے منع فرمایا۔^{۱۷}

۱۵۔ مشکوہ المسابیع۔ حصہ اول، حدیث نمبر ۲۰۷۔ ۱۶۔ قرآن۔ ۱۰: ۷۲۔

۱۷۔ صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، حدیث نمبر ۲۹۵ تا ۴۵۔ ۱۸۔ مشکوہ، کتاب المساجد۔

ہوا کی صفائی کے لئے دوسرا بڑا عنصر آبادی میں بزرہ، درخت، پھول اور بیرون وغیرہ کی موجودگی ہے، ہم نے اوپر دیکھا کہ قرآن کریم میں جس مثالی شہرہ میلہ طیبہ "کا ذکر ہے اس کی انتیاری خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے دائیں بائیں، باغات و نباتات کی فراوانی ہے جن کے پھول پتے اور سبزہ ہوا کو صاف اور پاکیزہ بنائیں" رسمیح طیبہ "میں تبدیل کرتے رہتے ہیں اور فضا کو مسلسل خوشگوار اور صحبت افزا بناتے رہتے ہیں۔ محنت کے اسی اصول کے پیشہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسلمانوں کو چلدار اور سایہ ہار درخت لٹکانے کا حکم دیا گئے تھے۔ مدینے کے نواح میں باخبری، شجر کاری اور زراعت کی افزائش میں آپ گہری توجیہی لیتے اور اکثر مساجد کے علاوہ باغات میں نماز ادا فرماتے۔^{۱۹}

فضا کو صاف اور ہوا کو پاکیزہ رکھنے کے لئے خوشبو کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں چیزیں مرغوب تھیں ان میں ایک خوشبو تھی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اسوہ کے علاوہ اجتماعی طور پر جماعت کے روز مسجد میں خوشبو جلاتے کا حکم دیتے تھے اور آپ کی ہدایت پر اگر تھی اور کافور جلا بیا جاتا تھا۔^{۲۰} حضور صلیع کا اسوہ حسنة اور آپ کے دوسرے اقدامات دراصل قرآن حکم کی ان آیتوں کی عملی تفسیر تھے۔ نبی ادم خذوا زینتكم عندك مسجده (ادم ہم نے حکم دیا تھا)، اے اولاد ادم! عبادت کے ہر موقع پر زینت سے آرائستہ رہا کرو۔ قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطبيت من السرور (زینت کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لئے پیدا کی ہیں، اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟^{۲۱}

اس وقت بھاری صنعتوں، کارخانوں اور ڈیزیل و پیڑوں کا وجود نہیں تھا۔ پھر بھی اس دفعہ معاشرے میں کشفت ہوا (AUTOMOBILE AIR) کے مضر اثرات کے اندیاد کا خیال رکھا

-۱۸۔ تحریک بخاری حسنہ دوم، کتاب الادب، حدیث نمبر ۸۲۱۔

-۱۹۔ مشکوٰۃ، جلد اول، حدیث نمبر ۶۸۳۔ -۲۰۔ مشکوٰۃ، جلد دوم، حدیث نمبر ۲۹۳۲۔

-۲۱۔ سنن نسائی، کتاب المساجد۔ -۲۲۔ قرآن۔ -۲۳۔ قرآن۔ -۲۴۔ قرآن۔

جاتا تھا۔ اس ابتدائی دور میں کثافت ہوا کا احتمال انسانی اجتماع میں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکماً یہ تأکید فرمائی تھی کہ لوگ جمعہ کے اجتماع میں شامل ہونے سے پہلے غسل کر دیا کریں۔ اس اصول پر اتنی سختی سے عمل کرایا جاتا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بغیر غسل کئے نماز جمعہ میں شریک ہونے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ نے آپ سے اس کوتاہی پر جواب طلبی کی اور یاد دلایا کہ جمعہ میں شریک ہونے کا طریقہ عہد رسالت سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ حضورؐ نے مسجد میں حدیث اصغر یعنی اخراج ریح کو دوسروں کے لئے موجب اذیت قرار دیا۔ کثافت ہوا کے انداز کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکم دیا جس میں یہ ہے یا پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا تھا۔ اور ایک دوسرے حکم کے ذریعہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ کوئی شخص باب پر کوئی ایسی پیزیر لٹا کر نہ آئے جس کی بدبوسے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔^{۲۵} حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقتداءات سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں کثافت ہوا کے معجزات کے انداز کا لکھنا اہتمام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی پنا پر آج ہمارا فرض ہے کہ ہم اتباع سنت میں موجودہ کثافت ہوا کے اسباب و عوامل کا تجزیہ کریں اور ان کی روک تھام کے لئے جدید ترین ذرائع کو استعمال میں لا کر اپنے ماحول اور معاشرے کو صاف سمجھا اور پاکیزہ بنائیں۔

پانچ:- ہوا، روشنی اور حرارت کے علاوہ بقاء حیات کے لئے پانی کی اہمیت کا اندازہ قرآن حکیم کے اس جملے سے لکھایا جاسکتا ہے۔ «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا»۔ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔

قرآن حکیم نے پاکیزہ نہروں اور طیب پانی کی پے حد تعریف کی ہے، جیکہ غدیظ ناپاک اور بڑھے پانی کی مددت کی ہے۔ پانی کو ظاہر یعنی پاک اور مطہر یعنی دوسرا چیزوں کو پاک کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ فقہاء و محدثین نے پانی کی اس اہمیت کے پیش نظر اس کی صفائی و عدم صفائی پر خاص توجہ دی ہے اور یہ عام اصول وضع کیا کہ جس پانی کی رنگت، بو یا ذائقہ تبدیل

ہو جائے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں فقہاء کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام میں صاف پانی کو حفظانِ صحت کے لئے بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ پانی کو صاف رکھنے کے لئے حضور صلعم نے کئی اذکارات فرمائے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ کسی کھلے کھڑے پانی میں جرنہ لئے دھونتے یا پینے کے کام آتا ہو، کوئی غلط نہ پیسی کی جائے، اس میں پیشاب یا پا خانہ نہ کیا جائے۔ دیران اور بیکار پڑے ہوئے کنوؤں کا پانی نہ پیا جائے اور نہ ہی کسی دوسرا سے استعمال میں لایا جائے۔^{۲۸}

غذا:- لبھائے حیات و صحت کے لئے تیسری اہم چیز غذا ہے۔ غذا کے ضمن میں اسلامی تعلیمات میں دو باتیں بڑی بنیادی ہیں۔ (۱) کیا کھایا جائے؟ (۲) کتنا کھایا جائے؟ -

پہلے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:- قل احل لکم الطیبٌ^{۲۹} تمہارے لئے ہر وہ غذا جو طیب ہے حلال ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا:- وَكُلُوا مِنْ أَمْارِزَقْكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طیبٌ۔^{۳۰} اللہ کے دینے میں سے حلال و طیب غذا کھاؤ۔

ان آقوں سے ثابت ہوا کہ اسلام میں ہر وہ چیز جو حلال اور طیب ہو جائز ہے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اسلام میں کسی غذا کا محض حلال ہونا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا طیب، پاکیزہ اور ساف ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر کوئی غذا جو فی لفہ حلال ہو لیکن طیب نہ ہو تو اسلام میں ایسی غذا کا استعمال ممنوع ہے۔ قرآن حکیم میں اکثر جگہ حلال اور طیب چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ حلال اور طیب کے بارے میں پوری طرح واقفیت حاصل کی جائے۔

حلال سے مراد کسی چیز کا شرعی اعتبار سے انسانی صحت کے لئے مفید ہونا ہے جب کہ طیب سے مراد اس غذا کا ایسی حالت میں ہونا ہے جب کہ وہ حیاتین (VITAMINS)

- ۲۶۔ الیفنا۔ - کتاب الوضوء - ۲۷۔ الیفنا۔ -

- ۲۸۔ شجرید بخاری، حصر دروم، بدرو المخلق۔ ۲۹۔ قرآن - ۵: ۳۔

- ۳۰۔ قرآن - ۵: ۸۸۔

سے بھر پور ہو، تازہ اور صحت بخش ہو۔ تازگی کے اعتبار سے حواس اور نفس دونوں کے لئے مرغوب ہو، بچل ہوں تو پچھے ہوئے اور تازہ ہوں، یعنی حال گوشت اور بیز پوں کا ہے۔ دوسرے سوال، کتنا کھایا جائے؟ کے بارے میں فرمایا۔ وکلا و اشریفیا دلا تصرفوا انه لا یحب المُرْنَفِين۔^{۳۱} کھاؤ پیو! لیکن (کھانے پینے میں) اسراف نہ کرو۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے: دلا تعتددا ان اللہ لا یحب المُعْتَدِين۔^{۳۲} حدود سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرا جگہ فرمایا ہے: دلا تبذر تبذیراً ان المُبَعْذِرِين کانوا اخوان الشَّيَاطِين۔^{۳۳} بے اعتمادی نہ کرو کیونکہ بے اعتماد لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ کتنا کھانے کے باسے میں ”اسراف، اعتدال، اور تبذیر“ سے پر ہیز کرنا قرآنی اصول ہیں۔ کھانے میں اسراف اور اعتدال کرنے والوں کو یہ وعید سنائی کہ وہ اللہ کی محبت سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہوں کامنہیلے مقصود رفتائے الہی کا حصول ہے اور ان اصولوں کی خلاف ورزی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے والا اپنے مقصود کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پنځوی اور زائد ضرورت کھانا، اسلامی تعلیمات سے اخراج کے برابر ہے۔ تیسرا آیت میں تو زائد از ضرورت کھانے والے کو حکم کھلا شیطانیں میں سے قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رضاۓ رحمٰن اور رضاۓ شیطان کا تعلق بقدر ضرورت اور زائد ضرورت کھانے سے ہجھے ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات قابل توجہ ہیں۔

بہت کھانے والے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ استعیذوا بالله من الرَّغب۔

بھوک سے زیادہ کھانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ یبغض الاکل شبعہ فرق۔

کھانا اتنا کھایا جائے کہ ایک دو نو والوں کی بھوک رہ جائے۔^{۳۴}

حدے میں ایک حصہ کھانے، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لئے جھوڑنا چاہیے۔^{۳۵}

-۳۱۔ قرآن۔ ۷: ۳۱۔ ۳۲۔ قرآن۔ ۵: ۸۷۔ ۳۳۔ قرآن۔ ۱۸: ۲۶-۲۷۔

-۳۴۔ صحیح بخاری، کتاب الاطعہ، ۳۵۔ سنن ترمذی۔ الباب الاشربة۔

معوی بدن کا خوف ہے اور رگنیں اس کی نایاں ہیں اگر محدثہ صحیح ہو تو رگنیں بھی تھیک رہتی ہیں۔
محدثہ فاسد ہو جائے تو رگنیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں۔ ۲۶

کافر سات آنتوں سے کھانا ہے اور مومن ایک آنت سے یتھے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات و ارشادات سے معلوم ہوا کہ آپ کے نزدیک صحت و
بیماری کا انعامار معدے پر ہے اور معدے کی صحت و بیماری کا انعامار بقدر ضرورت اور زائد
از ضرورت کھانے پر ہے۔ طب قدیم و طب جدید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علم طب کا پنجوڑ ہے، بلکہ آپ نے معدے کو بیماری و تندرستی کی
بنیاد قرار دے کر تاریخ طب کو ایک نیا عنوان عطا کیا۔

صحت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے بحث کرتے ہوئے یہ بات خاص طور پر توجہ
طلب ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور طبی ہدایات کی حیثیت کیا ہے؟

قرآن و سنت کی یہ تعلیمات بظاہر مخفی اخلاقی معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں الیسا نہیں
ہے۔ اگر تم عہد رسالت کو سامنے رکھ کر ان تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو معلوم ہو گا کہ ان کی حیثیت
فرمایں و قوانین کی تھی اور حضور اکرم صلیع کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ حکم و قانون سمجھا جاتا
تھا اور اس پر عمل کرنا معاشرے کی بہبود اور ضمیر کے اطمینان کا باعث ہوتا تھا۔ آج ان طبی اصولوں
پر عمل کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد پر ملک میں قوانین بنائے جائیں، جن کے پچھے اخلاقی اور
قانونی قوت موجود ہے۔ پہلے ابلاغ عام کے ذریعے ان کی خوب تشبیہ کی جائے اور پھر ان کی خلاف
درزی کو قابل گرفت جرم قرار دیا جائے۔